

الكتشاف

(Al-Hashr)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1	<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبَحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ</p>
	<p>ملکت کے اعلیٰ مناصب پر فائز لوگ ہیں اور عوام سب کے سب مملکت کے لئے تمام ترجود و جد کرتے ہیں، اور وہی با حکمت عزت و حکمت والا ہے</p>
2	<p>هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرٍ مَا ظَنَّتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَا نَعْلَمُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنْ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حِيثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَّرَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّغْبَةُ يُخَرِّبُونَ بُيُونَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَدُوا يَا أُولَئِكُمْ الْأَبْصَارِ</p>

3	<p>وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجُلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ أَلِيمٌ</p>	
	<p>و راگر حاکم اعلیٰ نے ان کے گھر کا اجز نانہ لکھ دیا ہوتا تو دنیا ہی میں ان کو سزا دیتا اور ان کے لیے اخیراً شعنی کی آگ کی سزا ہے،</p>	
4	<p>ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ</p>	
	<p>یا اس لیے کہ وہ حاکم اعلیٰ اور اس کے پیغمبر سے جدار ہے اور جو حاکم اعلیٰ اور اس کے پیغمبر سے جدار ہو تو پیشک حاکم اعلیٰ کی سزا خلت ہے،</p>	
5	<p>مَاقْطَعْتُمْ مِّنْ لِينَةٍ أَوْ تَرْكُثُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَيَأْذُنُ اللَّهُ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ</p>	
	<p>جن کس زور افراد کو تم نے پامال کیا یا ان کو ان کے اصولوں پر چھوڑ دیا تو یہ سب حاکم اعلیٰ کی احجازت سے ہت اور اس لئے کہ فناسقوں کو رسوا کرے</p>	
6	<p>وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِبَّاعٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسْلِطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ</p>	
	<p>اور حاکم اعلیٰ نے جو فنڈہ اپنے پیامبر کو دلایا ہتھ تو تم نے نہ تو ان پر کوئی سوچ بھار کیا ہتھ اور نہ ہی کوئی ترکیب ۔۔۔۔۔ وہ اپنے پیام بر کو اس شخص پر جو حضا ہتھ اے مسلط کر دیتا ہے ۔۔۔۔۔ اور اللہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔</p>	

7	<p>مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمُسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا هُمْ بِمُحْكَمٍ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ</p>
8	<p>لِلْفَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَتَّعَاقَدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ لِئَلَّكَ هُمْ الصَّادِقُونَ</p>
9	<p>وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَاءِ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُجْبِيُونَ مَنْ هَا جَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً لِمَا أُوتُوا وَلَوْ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ</p>
10	<p>او جسمہوں نے پہلے سے ہی گھر اور ٹھکانے میں امن قائم کر لیا ہو۔۔۔ اور انہیں جوان کی طرف ہجرت کر کے گئے پسند کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے اس سے جو دیے گئے اور اپنی جوانوں پر ان کو تر جستجو ہیں اگرچہ انہیں شدید حاجت ہو اور جو اپنے نفس کے لائق سے بچایا گیا تو، ہی کامیاب ہیں</p>

10	<p>وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا الْغَفِيرُ لَنَا وَلَا حُوَارِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غَلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ عَزُوفٌ تَّحِيمُ</p>
	<p>اور جوان کے بعد آئے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ "اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب، تو براہماہر بان اور رحیم ہے"</p>
11	<p>أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لَا هُوَ أَنَا الَّذِي كَفَرُوا إِنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجُوهُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِي كُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوْتِلُنَّمْ لَنَصْرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ</p>
	<p>کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے ان بھائیوں سے جس نہوں نے انکار کیا کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ حبائیں گے اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کی نہ مانیں گے اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے.....، اور مملکت گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔</p>
12	<p>لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَجْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوْتِلُوا لَا يَضْرُوهُمْ وَلَئِنْ نَصْرُوهُمْ لَيُوْلَنَّ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يُنَصْرُونَ</p>
	<p>اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے.....، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیسیٹھ پھیر حبائیں گے اور پھر کوئی مدد نہ دے حبائیں گے۔</p>
13	<p>لَا إِنْ شَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذُلِّكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ</p>

		بیشک ان کے دلوں میں امکلت سے زیادہ تمہارا ذرہ ہے یہ اس لیے کہ وہ نا سمجھ لوگ ہیں
14		<p>لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرْبَىٰ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُنُدٍ^١ بِأَسْهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذُلِّكَ بِإِكْفَمٍ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ</p>
		یہ سب مسل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعے بند شہروں میں یا شہر پناہ کے پیچھے سے۔۔۔ آپس میں ان کی لڑائی سخت ہے تم انہیں ایک جھٹا سمجھتے ہو جب کہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں
15		<p>كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَّا أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ</p>
		ان کی مثال ان لوگوں حبیسی ہے جو ابھی قریب زمانہ میں ان سے پہلے تھے انہوں نے اپنے کام کا و بال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے
16		<p>كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ إِنَّكُفُرُ فَلَمَّا كَفَرُوا قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ</p>
		جیسے کہ مثال ہو سر کش انسان کی جب وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ احکامات کو ماننے سے انکار کر دو اور جب اس نے انکار کر دیا تو وہ کہتا ہے میں تم سے بری ہوں۔۔۔ میں تو مملکت الہیہ ڈرتا ہوں جو تمام لوگوں کا نظامِ ربوبیت ہے۔۔۔
17		<p>فَلَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَكْفَمَ مَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذُلِّكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ</p>

		تودنوں کا نجام یہ ہوا کہ دونوں دشمنی کی آگ میں ڈالے گئے۔۔۔۔۔ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ اور بے انسافوں کی بھی سزا ہے
18		يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ وَلَنْ تُنْظَرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لَعْنِي وَإِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یا ایٰہا الّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَلَنْ تُنْظَرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لَعْنِي وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
		اے لوگو حبندوں نے امن قائم کیا، مملکت البری سے سے ڈرتے رہا اور ۔۔۔۔۔ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔۔۔۔۔ اور مملکت البری کے احکامات کی تابعداری کرتے رہا۔۔۔۔۔ یقیناً اکم اعلیٰ تمہارے اُن سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔
19		وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
		اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ مملکت البری کو بھول گئے تو حاکم اعلیٰ نے انہیں خود اپنا لوگوں سے بھلا دیا، بھی لوگ تو فاسق ہیں
20		لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ
		اہل قید حناہ اور اہل ریاست کبھی یکساں نہیں ہو سکتے اہل سلطنت ہی اصل میں کامیاب ہیں۔
21		لَوْأَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتَلْكَ الْأَمْثَالُ نَضَرُبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لَوْأَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتَلْكَ الْأَمْثَالُ نَضَرُبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
		اگر ہم یہ قرآن کسی سردار پر تارے تو ضرور تابعدار دیکھتا ۔۔۔۔۔ اللہ کے خوف سے پاش پاش سرنگوں۔۔۔۔۔ یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ سوچیں،

22	<p>هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَنِيبِ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ</p>
	<p>حاکم اعلیٰ وہ ہستی ہے کہ کوئی حاکم ویسا نہیں ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اور وہ حاضر و غائب سب کا حبانے والا عظیم اور دائی رحمتوں کا مالک ہے</p>
23	<p>هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَمَّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ شَبَّحَانَ اللَّهَ عَمَّا يُشَرِّكُونَ</p>
	<p>حاکم اعلیٰ تو وہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا نگہبان، عناب زور آور، اور بڑائی والا۔ تمام تر جد و جهد بلا اشتراک حاکم اعلیٰ ہی کے لئے ہے اور اس شرک سے مبراء ہے جو یہ لوگ اس سے منوب کرتے ہیں۔</p>
24	<p>هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصْوِرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَتَّرُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ</p>
	<p>وہی حاکم اعلیٰ ہے۔۔۔۔ اخلاقیات دینے والا وجود بخشنے والا، صورت گری کرنے والا اسی کے لیے تمام احکامات حسین تر ہیں، ہر چیز خواہ وہ اعلیٰ مقام پر ہو یا عوام میں ہو اس کے لئے جد و جهد کرتی ہے اور وہی بر بنائے حکمت غلبے والا ہے۔</p>